



## سوال

سیدنا مالک بن الحویرث نے کب اسلام قبول کیا؟

## جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

سیدنا مالک بن الحویرث اللیثی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی کنیت ابو سلیمان تھی۔

آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 74 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔

صحابہ کرام کے حالات زندگی پر لکھے جانے والی کتابوں میں انتہائی کوشش کے باوجود سیدنا مالک بن حویرث کے قبول اسلام کے سال کے بارے میں آگاہی نہیں مل سکی۔  
(دیکھیں: الطبقات الکبریٰ: جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 31، الإصابہ فی تمییز الصحابہ: جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532، الاستیعاب فی معرفۃ الأصحاب: جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1349)۔

مندرجہ ذیل حدیث سے یہ آگاہی ملتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ہم عمر نوجوانوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔

سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند ایک ہم عمر نوجوان ساتھی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں دن تک آپ کے ہاں قیام کیا۔ آپ انتہائی نرم دل اور بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے خیال کیا کہ ہمیں لپٹے گھر والوں کا شوق بے چین کر رہا ہے تو آپ نے ہم سے ان کی احوال پر سی فرمائی جنہیں ہم لپٹے پیچھے چھوڑے آئے تھے۔ ہم نے آپ کو ان کے حالات سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: ”واپس لپٹنے اہل خانہ کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں کے پاس رہو۔ انہیں دین کی تعلیم دو اور انہیں چھی باتوں کی تلقین کرو۔“ آپ ﷺ نے مزید باتیں بیان فرمائیں جن میں سے کچھ مجھے یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں، نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہہ دے، البتہ تم میں سے عمر کے اعتبار سے بڑا جماعت کرائے۔“ (صحیح البخاری، الاذان: 631)

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی